

JUT KUIMP TEPA IK KUE

Ya Buk Ei Nga Put Ei:

Mon ei ropa, mondpa pili wamp mbu, ronduł munduk molk, ik mbo wu kol ropa mbu nga rup etuk mulai!

Ya Buk Ei, Nam Ndi Rurum:

Wu Jisas kən Jeims rał nga ṫngan Jut ndi, mon ei rurum.

Mon Ropa Nam Ngurum:

Mon ei ropa, Jura wamp na mondpa pili wamp rulaip ekit orunga mbu kən ngurum.

Ui Nant Ila Rurum:

Ei Kraist metəng ei kən, mbuldung orunga pana 65 (AD) ila rurum.

Ik Ronduł: Jut 1:3

Na nga angmən mbu, Got ndi, tən etpa titim uł ei nga, enim mon ti rop, nguimp nəmp pit. Wote ei kelip, enim Got ndi, mondpa pili uł ngurum ei, ronduł puk, rup etuk, uł kit mbu, rok mana nduk iteing nəmp, mon ei, rop ngunt.

IK PENG KUE **Rump**

1:1-1:2 - Jut ndi, mon ei mel rurum

1:3-1:16 - Ik mbo wu kep nui mbu

1:17-1:25 - Uł iting mbu mel man ik

Jut Ndi, Mon Ei Mel Rurum

¹ Enim Got Tipam ndi, numan ngumba wiropa tilinga, Jisas Kraist ndi, rüp etäm wamp kœl, na Jeims ḥngun Jut, Jisas Kraist nga kongunkindmant wu ei ndi, mon ei rop, enim ngunt.

² Got nga wamp kont kul uł na, numan wangndui uł na, wote elim nga wamp numan ngui uł na mbœ, enim kœn piyangga!

Ik Mbo Wu Kep Nui Mbœ

³ Na nga mœn mul wamp mbœ, Got ndi, tœn etpa titim uł ei nga, enim mon ti, rop nguimp nœmp pit. Wote ei kelip, enim Got ndi, mondpa pili uł ngurum ei, ronduł puk rüp etœk, uł kit mbœ, rok mana nduk iteing nœmp, mon ei, rop ngunt.

⁴ Wamp mat, unt Buk Wingti ei ndi, kit mułing nitim nimbu, akup tœn kœn ruk ting ila ok molk, Got nga wamp poł tœtäm rœnang ik ei, tœk pei mundœk, wote Jisas Kraist tœn nga wu Nuim ei, tœk mbuł ngunmin.

⁵ Enim pœtmœn ik ni, aldfa enim kundœp namp. Ei Oła Nuim ei ndi, Isrel wamp mbœ, Isip kona ila etpa tœpa mepa ekit urum. Wote akil tepe, elim mondœk pili napœtœng wamp mbœ ropa kundrum.

⁶ Ik ti unt anggelo mat, ronduł tek morung mbœ, en enim nga kongun ila meka rok, kongun etœk kai mundi namœndrœng ila, en enim nga Got ndi, ngurum kona ei wak rorung. Anggelo mbœ Got ndi, ui ou ei kœn kœmp tœmba. Ei nga akup, Got ndi, tœpa kan ngurum ei mel, rumbuł ila pek mormin.

⁷ Unt Sorom kœn Gomora rał kœn, wote kona peng mat, nondpa titim mbila petœng wamp mbœ ndi, anggelo mbœ etœng ei mel, wapra rui uł

na, minapi na, minal mat etang ila, ndip mana ndupa, wamp minal ropa karem. Ut itim kuel, uel nga kona ila, ndip ei ndi nomba ei mel, to tundpa itim.

8 Ut tenda ei mel ku etuk, wamp mbu ur kump mat etmin nuk, en enim nga keng orunga, etuk ge nduk, wote Got nga rondu eli, tuk pei monduk, mu ilia anggelo mbu, ik mura nguk etmin.

9 Wote, anggelo Maikel kuimbal morum ei ndi, uel mbu mel iti natutem. Unt anggelo Maikel kuen Seitan rael, Moses nga on ei, tek piral etenggil. Ei kuen, Maikel ndi, Seitan tupa pei mundpa ik mura ngui ngunggarem. Wote elim ndi, nimba mel, "Got elim ndi, nim kuen ik ti nangga!" nitim.

10 Wote, wamp kit mbu, en enim pilik kun iti natutem uel mbu nga, ik mbuldung orunga natutem. I etmin uel ei ndi, en enim nga numan mbo ei, mel rakra mel, kapla pelinga, en enim etpa kit mundrum.

11 Enim pilik kun itei! Wamp kit kuel ndi, unt wu Kein uel kit itim uel ei mel etuk, wu Beilam ku moni timp nimba, etpa kit mundrum ei mel etuk, wote, unt wu Kora ik tupa roi ndupa, elim kit murum ei mel, wamp mbu i ku etuk, en enim kit muting.

12 Wamp kit kuel ndi, enim min monduk, rang tuk tenda etuk, koik nok mormin ila, pipil kueli nalk, rang mbu ok, roldanga nok etmin. Wu kit mbu, kona kuepkue ndi kopa mepa pulnga, kona rui nararem ni mel, wote nde ti mong rui narulnga, runggulk mundurmuen ni mel.

13 Wamp mbu nga numan ei num kuta ndi, ropa omba ekit pi naparem ei mel kapla. Wote wamp mbu mipil na ti, mu ilia rulang nomba mba, wote

kumbrum ni mel kapla.

14-15 Unt kor nga, Andam nga wamp kalk tuk
mek yant yant oñina, 7 itim ni kun, anda kouwu
Inok ei ndi moñpa, ik pai nomba, nimba mel, "Ya
kunuuya! Oña Nuim ei ndi, anggelo wingti minal
mepa omaba. Wamp mbu nga puñ mbu, akpa
nimba, Got tuk mbuñ nguk, wote Got kun el rui
wamp ralk, ik minupi nuk etmin wamp kit mbu
nga, puñ mbu akpa nimba, kump tupa etpa, elik
rondumba." nitim.

16 Wu kit mbə ndi, ik kek rək kak rək nək,
wamp mat ik ndo ngok, en enim nga orunga ou
nduk pilik, wamp mat etək rormin.

Uł Iting Mb时代中国

17 Wote, na nga wamp angmən mbət piləiya!
Enim unt nombułə rəng wu kəł ndi, tən nga
Nuim Jisas Kraist nga ik mat kunduk nətung
nimbət, pilik mint mutui!

¹⁸ Enim unt næk mel, "Ui pora nimba ei kæn, wamp mat ndi, Got nga uł eng mbø kandæk, oi endæk, en enim nga orunga uł kit iting mbø nga ou nduk piling," nætæng.

19 Wamp iti mba, Muñga Wingti tek muli nambek, wamp etek geka nduk, en enim ngakung orunga ou nduk pilik etmin.

20 Wote, enim wamp angmān mbā, en enim nga mondpa pili wingti ila, ronduł puk molk, Mułngā Wingti ei kān atinga rui!

21 *Enim Got nga wamp numan ngui uł ila mułangina, tən nga Nuim Jisas Kraist nga wamp kont kəł uł ei ndi, enim uł nga kənt nga kont mul uł ei tupa ngumba, ei nga nokunduk mułui!*

22-23 Wamp kont kul uł ei, mondpa pili ronduł pi napʉm wamp mbʉ kʉn etʉk, wote wamp mat, ndip nuing mbʉ etʉk tʉi! Wote, uł kit eng wamp mbʉ, kont kulk uł kit eng mbʉ enim ołump ting ei nga, ok tʉk mulʉi!

24 Enim kawa ndupa romba ei nga, peng manga rakpa mułangga, ambulk palk uł eng nui mbʉ molk ting.

25 Tʉn nga Etpa Ti Wu Got ałum ei, tʉn nga Nuim Jisas Kraist ei ndi, etpa mon mondpa, kaip nindpa etangga! Wamp mumuk rui ombo uł ombil ʉmbil mbʉ, elim kʉn uł nga kʉnt nga kont mul uł ei, pimba ei nga petʉm. Ei kupa.

**Got Nga Nambuha Ik Kai
The New Testament in the Melpa Language of Papua
New Guinea
Nupela Testamen long tokples Melpa long Niugini**

Copyright © 1995 The Bible Society of Papua New Guinea

Language: Melpa

Translation by: Wycliffe Bible Translators

Earlier edition was © 1965 British and Foreign Bible Society

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2012-10-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 31 Aug 2023

7aee00d3-bf61-5aa2-84a1-8318bf7d51e2